

اپنے ہسبند (Husband) کے لیے نیلز بڑھانے کا حکم

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا کوئی عورت اپنے خاوند کے لیے اپنے ناخن بڑھا سکتی ہے اگر وہ ناخن بڑھانا اس کے ہسبند کو اچھا اور اٹریکٹو لگتا ہو۔

سائل: یوسف (انڈیا)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي الثَّوَرَوَاتِ

عورت اپنے خاوند کے لیے بھی اپنے ناخن نہیں بڑھا سکتی کیونکہ اسے شریعت کا حکم ہے کہ چالیس دن سے پہلے پہلے ناخن کاٹ لے چالیس دن کے بعد ناخن نہ ترشوانا خلاف شریعت اور ممنوع ہے۔

جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا: قَالَ أَنَسٌ «وُقِّتَ لَنَا فِي قِصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ "ناخن ترشوانے اور مونچھ کاٹنے اور بغل کے بال لینے میں ہمارے لیے یہ میعاد مقرر کی گئی تھی کہ چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑ رکھیں۔" (صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب خصال الفطرة، الحدیث: 258، ص 153)

اور بہار شریعت میں ہے: ہر جمعہ کو اگر ناخن نہ ترشوائے تو پندرہویں دن ترشوائے اور اس کی انتہائی مدت چالیس ۴۰ دن ہے اس کے بعد نہ ترشوانا ممنوع ہے۔ یہی حکم مونچھیں ترشوانے اور موئے زیر یر ناف دور کرنے اور بغل کے بال صاف کرنے کا ہے کہ چالیس دن سے زیادہ ہونا منع ہے۔

(بہار شریعت ج 3 حصہ 16 ص 584)

اور خاوند کی رضا کے لیے خالق حقیقی کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ" اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں جائے گی۔

[المعجم الكبير للطبرانی ج 1 ص 185 حدیث نمبر 367]

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date:12-9-2018

The ruling of keeping long nails for one's husband

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

QUESTION:

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding the following issue: Can a woman keep long nail for her husband if he likes them and finds it attractive?

Questioner: Yusuf from India

ANSWER:

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

A woman cannot keep long nail even for her own husband because it is a command of sharī'ah for her to cut the nails before forty days have passed; not cutting one's nails after forty days is in contradiction to sharī'ah and prohibited.

Just as it has been stated in a Hadīth of Sahīh Muslim narrated by Sayyidunā Anas, may Allāh be pleased with him,

قَالَ أَنَسٌ «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِيطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»

“He states that, ‘The stipulated time within which we should trim the moustache, cut the nails, pluck the armpit hair and shave off the pubic hair is forty days.’”

[Sahīh Muslim, pg 153, Hadīth no 258]

In addition, it is stated in Bahār-e-Sharī'at that if one does not clip the nails every Friday, then it should be clipped once every fifteen days and the maximum time frame for this is forty days; to leave them unclipped for more than the stipulated time is not allowed. The same rule applies to trimming the moustache, removing the hair under the armpit and shaving the pubic hair. To leave this unattended for more than forty days is not permitted.

[Bahār-e-Sharī'at, vol 3, part 16, pg 586]

The True Creator ﷻ cannot be disobeyed in order to satisfy & please one's husband. Just as it has been stated by the Noble Prophet ﷺ ,

"لا طاعة لمخلوق في معصية الله"

“No creation will be obeyed in the disobeying of Allāh Almighty.”

[al-Mu'jam al-Kabīr li al-Tabarānī, vol 1, pg 185, Hadīth no 367]

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by Haider Ali